

SCOON

MAKING A DIFFERENCE

SHAHID JAMIL
C.E.O

ZAIN UL ABDEEN
Composser

GUNCHA NAEEM
Editor



68 Edition

April 22, 2026

EARTH DAY

A Call to Protect Our
Only Home

Every year on April 22, the world unites to celebrate Earth Day, a day dedicated to protecting our planet and promoting environmental sustainability. It serves as a reminder that Earth is not just where we live it is our only home.

The Reality We Live In From climate change to pollution and deforestation, our planet is facing serious challenges. Human activities continue to put immense pressure on natural resources, threatening ecosystems and future generations.

Why This Day Matters Earth Day encourages individuals and communities to take responsibility for the environment. It promotes sustainable practices, conservation efforts, and awareness about the urgent need to protect nature.

Small Actions, Big Impact Simple steps like reducing waste, conserving water, planting trees, and minimizing plastic use can contribute significantly to environmental protection. Every small effort adds up to a larger change.

A Quiet Truth We do not inherit the Earth from our ancestors we borrow it from future generations.

The Way Forward Sustainable living, environmental education, and global cooperation are essential to protect our planet. Change begins with awareness but grows through consistent action.

Conclusion Earth Day is not just about one day it is about a lifelong commitment to care for our planet. Because when we protect the Earth, we protect our future.

WORLD HOMEOPATHY DAY: A Gentle Science of Healing Beyond Convention

ASMA MAQSOOD, PAKISTAN

It is a quiet reminder each year on 10 April, when the world observes World Homeopathy Day to honor the birth anniversary of Samuel Hahnemann, the founder of homeopathy. The day is dedicated to raising awareness about a system of healing that continues to be practiced and debated across the world.

What is Homeopathy? Homeopathy is a system of medicine based on the principle of “like cures like,” meaning a substance that can cause symptoms in a healthy person may, in very small doses, help treat similar symptoms in a sick person. Remedies are prepared from natural sources such as plants, minerals, and animals, and are used in highly diluted forms.



Ongoing Debate and Challenges: Despite its widespread use, homeopathy remains controversial. Some scientific communities question its effectiveness due to limited clinical evidence, while others advocate for more research to better understand its potential role in healthcare.

Activities Around the World: On this day, various programs are organized including health camps, free consultations, seminars, workshops, and public awareness campaigns aimed at educating people about homeopathic medicine.

Conclusion: World Homeopathy Day serves as a reminder of the diversity in healthcare systems around the world. It encourages awareness, informed choices, and continued research to ensure that health practices evolve in a responsible and evidence-based direction.



The Purpose Behind the Day: World Homeopathy Day aims to spread awareness about homeopathic treatment, encourage research and development, support its integration into healthcare systems, and recognize the work of practitioners who contribute to this field.

A Different Approach to Healing Homeopathy is often described as a holistic approach, focusing on the person as a whole rather than only the disease. It is commonly considered gentle and non-invasive, and is frequently used for long-term and chronic health conditions.



Beyond Awareness

Building a Future of Acceptance, Inclusion & Empowerment

On April 2, the world came together to observe World Autism Awareness Day

A day dedicated to promoting understanding, compassion, and inclusion for individuals on the autism spectrum. While awareness is a vital first step, the real change begins when societies move beyond awareness toward true acceptance.

Carrying this mission forward, SCOON organized an impactful online awareness seminar on April 5, 2026, titled "Autism Awareness to Acceptance: Changing Mindset." The session served as a meaningful platform to discuss the realities of autism in Pakistan and the collective responsibility to build a more inclusive society.

The seminar was honored by the presence of distinguished speakers, including **Saima Qureshi Brand Ambassador SCOON 2025-26**, who shared her perspective on social acceptance and empathy, along with SCOON's leadership and team members—**Shahid Jamil CEO SCOON**, **Noman Akhtar Volunteer SCOON**, and **Tehreen Bint Ilyas Co-ordinator SCOON**. Each speaker contributed valuable insights, emphasizing the urgent need to reshape societal attitudes toward autism.

The discussion highlighted critical gaps in awareness, diagnosis, and support systems in Pakistan while emphasizing practical solutions such as early intervention and community support to improve the lives of individuals with autism and their families. More than just a seminar, it served as a powerful call to action, with SCOON reaffirming its commitment to driving meaningful change, In sha ALLAH—because awareness alone is not enough; it's time to move toward acceptance, inclusion, and empowerment.

Together, let's turn awareness into acceptance and create a more inclusive world for all.



World Hemophilia Day Raising Awareness for a Life Without Bleeding Fear

Asma Maqsood, Pakistan

Every year on 17 April, the world observes World Hemophilia Day to raise awareness about hemophilia and other bleeding disorders. The day also honors Frank Schnabel, the founder of the World Federation of Hemophilia, and highlights the importance of better care, early diagnosis, and equal treatment for all patients.



What is Hemophilia? Hemophilia is a genetic bleeding disorder in which the blood does not clot properly. This means even small injuries can lead to prolonged bleeding because the body lacks certain clotting factors. There are mainly two types: Hemophilia A (lack of factor VIII) and Hemophilia B (lack of factor IX).

Global Activities and Focus Each year, the day is marked with a special theme focusing on better care and inclusion. Around the world, awareness campaigns, medical seminars, workshops, blood donation drives, and patient support programs are organized to educate and support communities.



Symptoms Often Overlooked People living with hemophilia may experience prolonged bleeding after injuries, frequent nosebleeds, easy bruising, and pain or swelling in joints due to internal bleeding. These symptoms can affect daily life if not properly managed.

Challenges Faced by Patients Despite medical progress, many patients still struggle with limited healthcare facilities, high treatment costs, and lack of public awareness—especially in developing countries.

Causes and Nature of the Disorder Hemophilia is usually inherited through genes and is more commonly seen in males, while females often act as carriers. It is a lifelong condition, but with proper care, individuals can live healthier and safer lives.

Conclusion World Hemophilia Day reminds us that awareness can save lives. With timely diagnosis, proper treatment, and community support, people with hemophilia can live fuller, safer, and more confident lives.

Why This Day Matters World Hemophilia Day plays a vital role in increasing awareness, improving access to treatment, encouraging early diagnosis, and supporting patients and their families who face daily challenges.

Awareness brings care, and care brings hope for every life affected by hemophilia



World Exercise Day

The Foundation of a Healthy and Active Life

Exercise is not just about losing weight or improving physical appearance; it is the foundation of a healthy, active, and balanced life. It enhances physical strength, improves mental clarity, and contributes to overall well-being. World Exercise Day reminds us that our body is a trust and taking care of it is our responsibility. A physically active lifestyle not only protects us from various diseases but also improves energy levels and quality of life.

At SCOON, we strongly believe that exercise is essential for every individual, regardless of physical ability. For persons with disabilities, specially designed exercises based on their capacity can improve mobility, strengthen muscles, and enhance independence. More importantly, it builds confidence, promotes inclusion, and provides mental peace. Every small movement is a step toward empowerment and a better quality of life.



A healthy lifestyle does not require spending long hours in the gym. Even 15 to 30 minutes of daily walking or light exercise can bring remarkable positive changes in life. The key is consistency, not intensity. On this World Exercise Day, let us commit to making physical activity a part of our daily routine. Together, we can build a healthier, stronger, and more active society where well-being is a priority for all.



Benefits of Daily Exercise: Daily exercise plays a vital role in improving overall health and well-being. It helps reduce stress, anxiety, and depression, promoting better mental health and emotional balance. Regular physical activity also strengthens the immune system, enabling the body to fight off diseases more effectively. In addition, it supports heart health by lowering the risk of cardiovascular illnesses and improving circulation. Furthermore, exercise contributes to stronger bones, helping to prevent weakness and supporting healthy aging over time.

International Day of Conscience

Listening to the Voice Within



Every year on April 5, the world observes the International Day of Conscience, a day dedicated to promoting conscience, ethics, tolerance, peace, and mutual respect among human beings. It reminds us that building a better and more peaceful world begins with listening to the voice within us our conscience.

Understanding Conscience Conscience is the inner sense of right and wrong that guides human behavior. It shapes our decisions, influences our actions, and helps us choose justice over injustice, kindness over cruelty, and truth over falsehood. When individuals act with conscience, societies become more responsible and compassionate.

Why This Day Matters The International Day of Conscience encourages people to reflect on their actions and their impact on others. It promotes values such as tolerance, respect, and empathy, which are essential for peaceful coexistence in a diverse world.

Building a Better Society A peaceful society is not built through laws alone but through moral responsibility. When people respect one another's rights, accept differences, and act with honesty, communities become stronger and more united.

A Quiet Truth Every conflict begins when conscience is ignored—and every solution begins when it is awakened.

The Way Forward To create a better world, individuals must nurture moral values from an early age. Education, awareness, and personal responsibility play a key role in strengthening ethical behavior and promoting peace.

Conclusion The International Day of Conscience reminds us that true progress is not only material but also moral. A society guided by conscience is a society built on peace, respect, and humanity.



آٹزم کو صرف آگاہی نہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے

ایک خاموش صبح ہے۔ ایک بچہ کھڑکی کے پاس بیٹھا بار بار اپنے ہاتھوں کی حرکت دہرا رہا ہے، اپنی ہی دنیا میں گم۔ اس کی ماں اسے دیکھ رہی ہے مایوسی سے نہیں، امید سے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کا بچہ دنیا کو مختلف انداز سے دیکھتا ہے، غلط نہیں۔

ہر سال 2 اپریل کو دنیا بھر میں **World Autism Awareness Day** منایا جاتا ہے تاکہ آٹزم کے بارے میں شعور، قبولیت اور شمولیت کو فروغ دیا جاسکے۔ لیکن بہت سے خاندانوں کے لیے یہ صرف ایک دن نہیں، بلکہ ایک طویل زندگی کا سفر ہے

آٹزم کی حقیقت: آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر ایک دماغی نشوونما سے متعلق حالت ہے جو سیکھنے، بولنے، سماجی تعلقات اور رویوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ یہ کسی شخص کی پہچان نہیں بلکہ دنیا کو دیکھنے کا ایک مختلف انداز ہے، جہاں ہر فرد اپنی الگ صلاحیتوں اور چیلنجز کے ساتھ اس دائرہ کیفیت (اسپیکٹرم) پر موجود ہوتا ہے۔



جو اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے: آٹزم کے شکار بچے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے میں مشکل محسوس کر سکتے ہیں، بولنے میں تاخیر ہو سکتی ہے، یا وہ ایک ہی عمل کو بار بار دہراتے ہیں۔ یہ علامات خرابی نہیں بلکہ مختلف ذہنی ساخت کی نشانیاں ہیں جنہیں سمجھنے اور قبول کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ فیصلہ کرنے کی۔

ایک خاموش سچائی: اصل مسئلہ آٹزم نہیں بلکہ اس کی غلط فہمی ہے۔ جب معاشرہ سمجھنے کے بجائے فیصلہ کرتا ہے تو بچے مناسب رہنمائی اور مدد سے محروم رہ جاتے ہیں۔

آگے کا راستہ: ابتدائی معائنہ، خصوصی تعلیم، تربیت یافتہ اساتذہ اور باشعور والدین مل کر ایک بچے کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ صبر، سمجھ اور معاون ماحول ترقی اور خود اعتمادی کی بنیاد ہیں۔




پیغام: آٹزم کوئی کمی نہیں بلکہ دنیا کو دیکھنے کا ایک مختلف انداز ہے۔ جب ہم فرق کو قبول کرنا سیکھ لیتے ہیں تو ہم ایک ایسا معاشرہ بناتے ہیں جہاں ہر بچہ اپنی جگہ بنا سکتا ہے، سیکھ سکتا ہے اور آگے بڑھ سکتا ہے۔

کیونکہ اصل تبدیلی صرف آگاہی نہیں بلکہ قبولیت ہے۔ اسماء مقصود، پاکستان



ملیریا سے بچاؤ کا عالمی دن

ایک محفوظ اور صحت مند مستقبل کی ضرورت



بچاؤ ہی بہترین حل ملیریا سے محفوظ رہنے کے لیے چند سادہ مگر مؤثر اقدامات نہایت ضروری ہیں۔ سوتے وقت چھتر دانی کا استعمال، گھر اور ارد گرد صفائی رکھنا اور پانی جمع نہ ہونے دینا، چھتر مار ادویات کا باقاعدہ استعمال، اور شام کے وقت مکمل لباس پہننا یہ تمام احتیاطی تدابیر ہمیں اس بیماری سے بچا سکتی ہیں۔

پاکستان میں ہر سال 25 اپریل کو World Malaria Day منایا جاتا ہے، جو ہمیں ایک ایسی بیماری کے خلاف متحد ہونے کا پیغام دیتا ہے جو آج بھی ہزاروں جانوں کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ یہ دن صرف آگاہی نہیں بلکہ عمل کی دعوت ہے۔ کیونکہ ملیریا سے بچاؤ ممکن ہے، اگر ہم احتیاط کو اپنی عادت بنا لیں۔



ایک خاموش سچائی ملیریا ایک قابل علاج بیماری ہے، مگر لاپرواہی اسے خطرناک بنا دیتی ہے۔ اکثر لوگ علامات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے صورتحال سنگین ہو جاتی ہے۔

ایک عام سی شام، جب چھتر خاموشی سے اپنا کام کرتے ہیں، کئی زندگیاں خطرے میں آ جاتی ہیں۔ ملیریا محض ایک بخار نہیں بلکہ ایک سنگین بیماری ہے جو جسم کو کمزور کر دیتی ہے اور بروقت علاج نہ ہونے کی صورت میں مستقل معذوری یا موت کا سبب بن سکتی ہے۔

آئیے اس دن کو ایک عہد بنائیں صفائی، احتیاط اور آگاہی کے ذریعے پاکستان کو ملیریا سے پاک بنانے کا۔ کیونکہ ایک محفوظ معاشرہ ہی ایک روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔

**آج کی احتیاط، کل کی حفاظت
مل کر ملیریا کو شکست دیں**

ہماری ذمہ داری سکون اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ ایک صحت مند معاشرہ ہی مضبوط مستقبل کی بنیاد ہوتا ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ نہ صرف اپنی بلکہ اپنے ارد گرد لوگوں کی صحت کا بھی خیال رکھیں۔ اگر کسی کو تیز بخار، کھپکھپی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً معالج سے رجوع کریں۔



ورلڈ ہیلتھ ڈے

سب کے لیے صحت مند مستقبل کی تعمیر

ہر سال 7 اپریل کو دنیا بھر میں World Health Day منایا جاتا ہے، جو ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ صحت کوئی سہولت نہیں بلکہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ یہ دن World Health Organization کے قیام کی یاد میں منایا جاتا ہے اور عالمی سطح پر صحت کے اہم مسائل کو اجاگر کرنے اور ان کے حل کے لیے اجتماعی کوششوں کی دعوت دیتا ہے۔



آج بھی دنیا کے کئی حصوں، خصوصاً پاکستان میں، بنیادی صحت کی سہولیات تک رسائی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ کسی کے لیے ہسپتال تک پہنچنا مشکل ہے، تو کسی کے لیے علاج کے اخراجات برداشت کرنا۔ ہر اعداد و شمار کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے ایک ماں جو دو انہیں خرید سکتی، ایک بچہ جو حفاظتی ٹیکوں سے محروم رہ جاتا ہے، یا ایک خاندان جو قابل علاج بیماریوں سے نبرد آزما ہے۔



آگاہی سے عمل تک صرف آگاہی کافی نہیں، عمل ضروری ہے۔ صفائی کا خیال رکھنا، متوازن غذائینا، باقاعدہ ورزش اور وقت پر طبی معائنہ کروانا یہ سادہ اقدامات بڑی بیماریوں سے بچا سکتے ہیں۔ اسی طرح حکومت اور معاشرہ مل کر صحت کی سہولیات کو بہتر بنا سکتے ہیں۔

ایک خاموش سچائی صحت مند معاشرہ صرف ہسپتالوں سے نہیں بنتا، بلکہ گھروں، اسکولوں اور کمیونٹیز میں شعور اور ذمہ داری سے تشکیل پاتا ہے۔

آگے کا راستہ صحت کے شعبے میں سرمایہ کاری، عوامی آگاہی، اور کمزور طبقات کی مدد یہ سب ایک بہتر مستقبل کی بنیاد ہیں۔ جب فرد صحت مند ہوگا تو خاندان اور معاشرہ بھی مضبوط ہوگا۔

نتیجہ ورلڈ ہیلتھ ڈے ہمیں سوچنے، سمجھنے اور عمل کرنے کا موقع دیتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر چھوٹی کوشش بھی بڑی تبدیلی لاسکتی ہے۔ کیونکہ ایک صحت مند انسان ہی ایک مضبوط قوم کی بنیاد ہوتا ہے۔



صحت کا حقیقی مطلب صحت صرف بیماری نہ ہونے کا نام نہیں بلکہ جسمانی، ذہنی اور سماجی طور پر مکمل فلاح کا نام ہے۔ صاف پانی، متوازن غذا، ذہنی سکون، محفوظ ماحول اور معیاری طبی سہولیات یہ سب مل کر ایک صحت مند زندگی کی بنیاد بنتے ہیں۔

اس دن کا مقصد ورلڈ ہیلتھ ڈے کا مقصد عالمی صحت کے مسائل کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا، صحت مند طرز زندگی کو فروغ دینا، اور سب کے لیے یکساں طبی سہولیات کی فراہمی پر زور دینا ہے۔ ہر سال ایک مخصوص موضوع کے تحت مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا جاتا ہے۔

درپیش چیلنجز طبی ترقی کے باوجود آج بھی لاکھوں لوگ بنیادی علاج سے محروم ہیں۔ غربت، تعلیم کی کمی اور صحت کے نظام کی کمزوری ایسے عوامل ہیں جو اس مسئلے کو مزید بڑھاتے ہیں۔ قابل علاج بیماریاں، غذائی قلت اور ذہنی مسائل آج بھی بڑے چیلنجز ہیں۔

صحت مند انسان، مضبوط قوم آج سے اپنی صحت کو ترجیح دیں

سکون نے رمضان راشن ڈرائیو 2026



رمضان راشن تقسیم مہم: رمضان المبارک 2026 کے دوران اسکون نے ملک بھر کے مختلف شہروں میں مستحق خاندانوں تک راشن اور فوڈ بیگز کی فراہمی کا کامیاب اور وسیع پیمانے پر انعقاد کیا۔ اس مہم کے تحت انک، بہاولنگر، چکوال، گوجرانوالہ، گجرات، حافظ آباد، خانوال، لالاموسہ، ملتان، سرانے عالمگیر، سرگودھا، سیالکوٹ، ساہیوال، چارسدہ، مردان، لوہردیر، صوابی، سوات، حیدرآباد، میرپور، ٹیاری، سکھر، کوئٹہ اور دیگر علاقوں میں ضرورت مند افراد تک امداد پہنچائی گئی، جس سے سینکڑوں خاندانوں کو ریلیف حاصل ہوا۔

عید خوشیاں تقسیم مہم: رمضان کے اس بابرکت سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے اسکون نے عید کے موقع پر بھی مستحق افراد کو خوشیوں میں شامل کرنے کا خصوصی اہتمام کیا۔ اس مہم کے تحت چکوال، چارسدہ اور سیالکوٹ میں عیدی تحائف، کپڑے اور نقد امداد تقسیم کی گئی تاکہ کمزور اور محروم طبقات بھی عید کی خوشیوں میں برابر شریک ہو سکیں۔

انسانیت اور شمولیت کا مشن: اس مہم کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ کوئی بھی فرد، خصوصاً معذور اور محروم افراد، تنہائی اور محرومی کا احساس نہ کریں۔ اسکون کے رضا کاروں نے اپنے وقت اور توانائی کو وقف کرتے ہوئے مستحق افراد کے ساتھ وقت گزارا اور ان کی خوشیوں میں شریک ہو کر معاشرے میں محبت، ہمدردی اور شمولیت کو فروغ دیا۔

DONATION IN
NORWAY



VIPPS: 74763

ACCOUNT TITLE: SCOON
BANK NAME: DNB BANK
ACCOUNT NUMBER: 0539.66.35242
IBAN: NO7305396635242
BIC/SWIFT: DNBANOKKXXX
ONLINE DONATIONS: WWW.SCOON.ORG/DONATION/

DONATION IN
DENMARK



Mobile Pay 3293WV

BANK TITLE:
SCOON / SPECIAL CHILDREN ORGANISATION
BANK A/C: 1251.06.50830
BIC / SWIFT DNBANOKKXXX
IBAN: NO7912510650830
ONLINE DONATIONS: WWW.SCOON.ORG/DONATION/

DONATION IN
SWEDEN



SWISH: 0724269600

BANK TITLE:
SCOON / SPECIAL CHILDREN ORGANISATION
BANK A/C: 1251.06.50822
BIC / SWIFT DNBANOKKXXX
IBAN: NO412510650822
ONLINE DONATIONS: WWW.SCOON.ORG/DONATION/

DONATIONS IN FRANCE, GERMANY, SPAIN, FINLAND, PORTUGAL



Bank Title:

SCOON / SPECIAL CHILDREN ORGANISATION

Bank A/C: 1251.07.63376

BIC / SWIFT DNBANOKKXXX

IBAN: NO5612510763376

Online donations: www.scoon.org/donation/

**DONATION IN
PAKISTAN**



JAZZCASH: 0334 8028804

EASYPISA: 0334 4321917

DONATE NOW

اختتامی پیغام: یہ تمام اقدامات اس عزم کی عکاسی کرتے ہیں کہ اجتماعی کوششوں کے ذریعے ہی معاشرے میں حقیقی تبدیلی لائی جاسکتی ہے۔ رمضان راشن ڈرائیو 2026 کی کامیاب تکمیل اس بات کا ثبوت ہے کہ جب انسانیت کے لیے کام کیا جائے تو امید، وقار اور خوشی ہر ضرورت مند تک پہنچائی جاسکتی ہے۔





سکون

کے منصوبے

خدمت، ہمدردی اور تبدیلی کا سفر

اس کے ساتھ ساتھ سکون یونیفارم کی تقسیم بچوں کو تعلیم جاری رکھنے میں سہولت دیتی ہے، جبکہ راشن اور رمضان راشن مہم ضرورت مند خاندانوں کے لیے مشکل وقت میں سہارا بنتے ہیں۔

آگاہی اور شعور کی ترویج سکون صرف مدد تک محدود نہیں بلکہ شعور بیدار کرنے پر بھی یقین رکھتا ہے۔ ای میگزین اور فکری آگاہی سیمینارز کے ذریعے معاشرتی مسائل کو اجاگر کیا جاتا ہے اور لوگوں کو مثبت تبدیلی کی طرف راغب کیا جاتا ہے۔

ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری سکون کا ہر منصوبہ ایک بہتر، ہمدرد اور باختیار معاشرے کی طرف قدم ہے، مگر یہ سفر آپ کے تعاون کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔

عطیہ کی اپیل آپ کا چھوٹا سا تعاون کسی کی زندگی بدل سکتا ہے چاہے وہ ایک وہیل چیئر ہو، کسی خاندان کی کفالت، کسی بچے کی تعلیم یا کسی خاتون کا باختیار بننا۔ آئیں، سکون کے ساتھ مل کر اس نیکی کے سفر کا حصہ بنیں۔ کیونکہ جب ہم ساتھ چلتے ہیں تو کوئی بھی پیچھے نہیں رہتا۔

آپ کا ایک قدم، کسی کی پوری زندگی بدل سکتا ہے
آج ہی سکون کا ساتھ دیں

پاکستان کے مختلف علاقوں میں بے شمار افراد روزمرہ زندگی میں مشکلات کا سامنا کرتے ہیں کسی کو چلنے پھرنے میں دشواری ہے، کسی کو تعلیم کے مواقع میسر نہیں، کوئی روزگار سے محروم ہے تو کوئی بنیادی ضروریات سے۔ سکون ان تمام مسائل کو کم کرنے کے لیے مختلف فلاحی منصوبوں کے ذریعے امید، عزت اور مواقع فراہم کر رہا ہے۔

فلاحی منصوبوں کے ذریعے عملی خدمت سکون کے مختلف منصوبے معاشرے کے مختلف طبقات کی مدد کر رہے ہیں۔ وہیل چیئر منصوبہ معذور افراد کو خود مختاری اور آزادی فراہم کرتا ہے، جبکہ کفالت منصوبہ مستحق خاندانوں کی بنیادی ضروریات پوری کرنے میں مدد دیتا ہے۔ معذور افراد کے لیے روزگار اسکیم اور پیشہ ورانہ تربیتی کورسز انہیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کا موقع دیتے ہیں۔ اسی طرح خواتین کو باختیار بنانے کا منصوبہ انہیں ہنر اور اعتماد فراہم کرتا ہے تاکہ وہ معاشرے میں اپنا مثبت کردار ادا کر سکیں۔

DONATION IN NORWAY



VIPPS: 74763

ACCOUNT TITLE: SCOON
BANK NAME: DNB BANK
ACCOUNT NUMBER: 0539.66.35242
IBAN: NO7305396635242
BIC/SWIFT: DNBANOKKXXX
ONLINE DONATIONS: WWW.SCOON.ORG/DONATION/

DONATION IN DENMARK



Mobile Pay 3293WV

BANK TITLE: SCOON / SPECIAL CHILDREN ORGANISATION
BANK A/C: 1251.06.50830
BIC / SWIFT DNBANOKKXXX
IBAN: NO7912510650830
ONLINE DONATIONS: WWW.SCOON.ORG/DONATION/

DONATION IN SWEDEN



SWISH: 0724269600

BANK TITLE: SCOON / SPECIAL CHILDREN ORGANISATION
BANK A/C: 1251.06.50822
BIC / SWIFT DNBANOKKXXX
IBAN: NO412510650822
ONLINE DONATIONS: WWW.SCOON.ORG/DONATION/

DONATION IN PAKISTAN



JAZZCASH: 0334 8028804
EASYPISA: 0334 4321917

DONATE NOW

DONATIONS IN FRANCE, GERMANY, SPAIN, FINLAND, PORTUGAL



Bank Title: SCOON / SPECIAL CHILDREN ORGANISATION
Bank A/C: 1251.07.63376
BIC / SWIFT DNBANOKKXXX
IBAN: NO5612510763376
Online donations: www.scoon.org/donation/

SCOON CONTINUES

ITS JOURNEY

bringing smiles, spreading hope, changing lives



SCOON PROJECTS

- Wheelchair Project
- Kafalat Project
- Rozgar Scheme for PWDs
- Vocational Courses for PWDs
- Empowerment Project for Women
- School Uniform Distribution
- Food /Ramzan Packages
- E-Magazine
- Intellectual Awareness Seminars

DONATIONS IN NORWAY

VIPPS: 74763
BANK AC: 0539.66.35242

DONATIONS IN DENMARK

MOBILEPAY 3293WV

DONATIONS IN SWEDEN

SWISH: 071 426 9600



INTERNATIONAL DONATIONS

IBAN: NO7305396635242
BIC/SWIFT:DNBANOKKXXX

Donation in Norway

For Website

Follow Us on Instagram Follow Us on Facebook



SCOON - MAKING A DIFFERENCE

EVERY ENDING IS A NEW BEGINNING — AND YOU ARE THE START.

